

کام پر صحت و سلامتی

تدارک کی شروعات یہاں ہوتی ہے

کارکنان کو حق ہے کہ:

- جائے کار کے خطرات اور ان کے بارے میں جو کچھ کرنا ہے اس بابت جانیں۔
- جائے کار میں صحت و سلامتی کی دشواریوں کو حل کرنے میں شرکت کریں۔
- ایسے کام سے منع کر دیں جسے وہ غیر محفوظ خیال کرتے ہیں۔

کارکنان پر لازم ہے کہ:

- قانون کی اور جائے کار میں صحت و سلامتی کی پالیسیوں اور طریق کار کی پیروی کریں۔
- اپنے آجر کے ذریعہ مطلوب تحفظاتی آلات پہنیں اور استعمال کریں۔
- ایسے انداز میں کام اور عمل کریں جس سے خود انہیں یا کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے۔
- اپنے سپروائزر کو کسی خطرے یا چوٹ کی اطلاع دیں۔

قانون کی پیروی کرنے اور صحت و سلامتی کی تشویشات کا اظہار کرنے پر کارکنان کے خلاف آجروں کو ہرگز کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔

آجروں پر لازم ہے کہ:

- یقینی بنائیں کہ کارکنان مضرتوں اور خطرات کے بارے میں جانتے ہیں اس طرح کہ حفاظت کام کرنے کے تعلق سے معلومات، ہدایات اور نگرانی فراہم کریں۔
- یقینی بنائیں کہ کام کے دوران کارکنان کی صحت و سلامتی کے تحفظ کے لئے جو کچھ درکار ہے سپروائزرز اسے جانتے ہیں۔
- جائے کار میں صحت و سلامتی کی پالیسیاں اور طریق کار تخلیق کریں۔
- یقینی بنائیں کہ ہر کوئی قانون کی اور جائے کار میں صحت و سلامتی کی پالیسیوں اور طریق کار کی پیروی کرتا ہے۔
- یقینی بنائیں کہ کارکنان صحیح تحفظاتی آلات پہنتے اور استعمال کرتے ہیں۔
- کارکنان کو زخمی ہونے یا کام سے تعلق رکھنے والی بیماری لاحق ہونے سے بچانے کے لئے حالات کے لحاظ سے معقول ہر کام کریں۔

سپروائزرز پر لازم ہے کہ:

- کارکنان کو مضرتوں اور خطرات کے بارے میں بتائیں، اور ان کی تشویشات کا جواب دیں۔
- کارکنان کو بحفاظت کام کرنے کا طریقہ دکھائیں، اور یقینی بنائیں کہ وہ قانون کی اور جائے کار میں صحت و سلامتی کی پالیسیوں اور طریق کار کی پیروی کرتے ہیں۔
- یقینی بنائیں کہ کارکنان صحیح تحفظاتی آلات پہنتے اور استعمال کرتے ہیں۔
- کارکنان کو زخمی ہونے یا کام سے تعلق رکھنے والی بیماری لاحق ہونے سے بچانے کے لئے حالات کے لحاظ سے معقول ہر کام کریں۔

اونٹاریو کا مشغلہ جاتی صحت و سلامتی سے متعلق قانون (Occupational Health and Safety Act) کارکنان کو حقوق عطا کرتا ہے۔ یہ آجروں، سپروائزرز (نگرانوں) اور کارکنان کے لئے اصول طے کرتا ہے تاکہ وہ جائے کار کو محفوظ تر بنانے کیلئے ساتھ مل کر کام کر سکیں۔

صحت و سلامتی کو بہتر بنائیں:

- اپنی مشترکہ صحت و سلامتی کمیٹی (Joint Health and Safety Committee) یا صحت و سلامتی کے نمائندہ (Health and Safety Representative) کا پتہ کریں۔
- صحت و سلامتی سے متعلق تشویشات کے بارے میں اپنے آجر، سپروائزر، کارکنان، مشترکہ صحت و سلامتی کمیٹی یا صحت و سلامتی کے نمائندہ سے بات کریں۔

وزارت محنت، تربیت اور ہنر کے فروغ
(Ministry of Labour, Training and Skills Development)
202 877 1 کو Skills Development
0008 پر کال کریں

سنگین چوٹوں، اموات، کام سے انکار کے بارے میں کسی بھی وقت اطلاع دیں۔

جائے کار سے متعلق صحت اور سلامتی کی معلومات، ہفتہ واری کام کے دن صبح 8:30 سے شام 5:00 بجے تک ایمرجنسی؟ ہمیشہ فوراً 911 پر کال کریں۔

مزید معلومات حاصل کریں:

ontario.ca/healthandsafetyatwork

© Queen's Printer for Ontario

Ministry of Labour, Training and Skills Development
ISBN 978-1-4868-4144-8 (پرنٹ کریں)
ISBN 978-1-4868-4145-5 (PDF)

فروری 2020

